

امام کے پیچھے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرات کا کیا حکم ہے اور ہمیں کیا پڑھنا
چاہیے اور کیانہیں پڑھنا چاہیے؟

سائل : ایک بھائی فرام انڈیا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ہر نماز میں مقتدی کا امام کے پیچھے قرآن کی قرات کرنا مکروہ تحریمی و ناجائز
ہے حتیٰ کہ فاتحہ پڑھنا بھی۔ بلکہ مقتدی خاموش رہ کر سنیں جیسا کہ قرآن شریف
میں ہے : **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**۔ جب قرآن پڑھا جائے
تو اسے سُنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔

(پ ۹، الاعراف: ۲۰۴)

اور صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "اذ صلیتہم فاقیموا صوفکم

ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبر وا واذ اقرأ فانصتوا" یعنی جب تم نماز پڑھو
اپنی صفیں سیدھی کرو پھر تم میں کوئی امامت کرے و ہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر
کہو اور جب وہ قرأت کرے تم چپ رہو۔ (الصحيح المسلم باب التشهد فی الصلوة
مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/ ۱۷۴)

اور فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ مذہب حنفیہ دربارہ قرأت مقتدی عدم اباحت و کراہت
تحریمیہ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج 6 ص 237)

اور قرآن کے علاوہ ثنا، تسبیحات رکوع و سجود و تکبیرات انتقال اور ربنا لک
الحمد اور اس کے علاوہ تشہد اور درود شریف اور درود کے بعد پڑھے جانی
والی دعا وغیرہ کا پڑھنا جائز ہے۔

والله تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

WHAT SHOULD BE RECITED AND WHAT SHOULDN'T BE RECITED BEHIND AN IMAM?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

Question:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: What is ruling pertaining to recitation (of the Qur'an) when praying behind an imam? What should be recited and what shouldn't be recited?

Questioner: A brother from India.

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is *makruh tahrimi* (prohibitively disliked) and impermissible for a *muqtadi* (follower) to recite the Qur'an, be it Surah al-Fatihah, behind an imam in every prayer. A *muqtadi* must remain silent and listen (to the recitation). It is mentioned in the Noble Qur'an,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“So pay attention and listen quietly when the Quran is recited, so that you may be given mercy.” [al-A'raf, 204]

It is narrated in Sahih Muslim from Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم stated:

اذ صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا

“When you pray make your rows straight and let anyone amongst you act as your Imam. Recite the takbir when he recites it and when he recites (the Qur'an), you should remain silent.” [Sahih Muslim, Bab al-Tashahhud fi al-Salah]

It is mentioned in al-Fatawa al-Ridawiyah, “The Hanafi school holds the recitation (of the Qur'an) by the *muqtadi* to be impermissible and prohibitively disliked. [Fatawa Ridawiyah, vol. 6, pg. 237]

It is permissible apart from the Qur'an to recite the *Thana*, *tasbihat* (glorifications) recited in *ruku'* (bowing) and *sujud* (prostration), takbirs of changing positions, *rabbana laka al-hamd*, *tashahhud*, *salawat* (prayers) upon the Prophet ﷺ *du'a* after the *salawat*, etc.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by the SeekersPath Team